

کے ایام میں بھی شعبہ ترجمہ و تفسیر قرآن کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے جسے دارالعلوم کے دو اساتذہ مولانا مفتی غلام الرحمن اور احقر عبدالقیوم حقانی پڑھا رہے ہیں۔ تعطیلات میں طلبہ دارالحفظ والتجوید کے علاوہ شکر کار ترجمہ قرآن کے قیام و طعام اور دیگر ضروریات کی کفالت دارالعلوم کر رہا ہے۔ باقاعدہ درس تفسیر و ترجمہ جاری ہے جس کی وجہ سے دارالعلوم میں طلبہ کی رونق کچھ نہ کچھ موجود ہے۔

ختم بخاری و سننات حفظ کی تقریب | ۲۱ اپریل - بعد العصر دارالعلوم حقانیہ کی وسیع مسجد میں ختم بخاری کی تقریب منعقد ہوئی۔ بغیر کسی سبب کی دعوت یا باضابطہ اطلاع کے علاقہ بھر سے مخلصین اور دارالعلوم سے وابستگان کا ایک جم غفیر پہنچ گیا۔ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی حضرت شیخ مدظلہ نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائی۔ مختصر خطاب کے بعد حضرت مدظلہ کی دعا پر یہ تقریب نماز مغرب سے قدرے قبل اختتام پذیر ہوئی جب کہ اس سے قبل دارالحفظ والتجوید کے طلبہ نے اپنے اساتذہ کی نگرانی میں اپنی سالانہ تربیتی اور اخلاقی تعلیم کا مظاہرہ کیا۔ چھوٹے اور بے زبان اور معصوم بچوں نے شب و روز کی دعائیں، اذکار، علم تجوید سے متعلق سوال و جواب کے علاوہ روزمرہ کے مختلف موضوعات پر اصلاحی اسادہ اور اثر انگیز تقریریں کیں۔ حافظین و سامعین عیش عشق کراٹھے حسن اتفاق سے اس تقریب میں مولانا عبداللہ درخوستی مدظلہ کے صاحبزادہ مولانا فدا الرحمن درخوستی (دکراچی) بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مدظلہ اور دیگر اساتذہ اور مولانا درخوستی نے اپنے ہاتھوں سے حفظ کرنے والے سولہ بچوں کی دستا ربندی کی اور انعامات تقسیم فرمائے۔

○ ۱۳ مارچ - علاقہ بھر سے آنے والے وفود اور مخلصین و محبین کی خواہش پر حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے انتخابات میں کامیابی کے سلسلے میں مولانا سمیع الحق صاحب تحصیل نوشہرہ کے تمام حلقے میں شکرے کے دوروں کا پروگرام رکھا۔ روزانہ 'نو نو' اور بعض ایام میں گیارہ گیارہ جلسوں سے خطاب کیا۔ ہر جگہ استقبال اور خوش آمدید کے مناظر، انتخابی مہم سے بھی سچن بڑھ کر تھے۔ ہر جگہ یہی کہا گیا کہ آپ کے ہمارے پاس شکرے کے لئے آنے کے بجائے ہم آپ کا شکر یہ ادا کرتے ہیں۔ کہ حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے انتخابات میں حصہ لے کر ہماری قیمتی رائے اور ووٹ کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ بعض ایسے شہر جہاں انتخابی مہم میں نہ جایا جاسکا۔ تب بھی انہوں نے سو فیصد اپنا ووٹ حضرت مدظلہ کے حق میں استعمال کیا۔ اب وہاں کے مخلصین نے مجبور کر کے اپنے شہر آنے کی دعوت دی، تو شہر سے باہر نہایت دھوم دھام تازک و احتشام اور فینڈا المٹال استقبال کیا اور دل و جان سے دیدہ و دل نچھاور کیا۔ ہر جگہ عقیدتمندی کا ایسا ہی سیلاب تھا کہ خلقت تھی کہ ٹوٹی پڑتی۔

ان پروگراموں میں بھی احقر اور علاقہ کے اکابر علماء ان کے ہمراہ رہے۔ جہاں مولانا سمیع الحق خود پہنچ سکے وہاں حافظ مولانا انوار الحق صاحب نے مفتی غلام الرحمن صاحب کی معیت میں شکرے کے دورے کئے۔